



FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMPETITIVE EXAMINATION - 2021
FOR RECRUITMENT TO POSTS IN BS-17
UNDER THE FEDERAL GOVERNMENT

Roll Number

ISLAMIC STUDIES

TIME ALLOWED: THREE HOURS
PART-I(MCQS): MAXIMUM 30 MINUTES

PART-I (MCQS)
PART-II

MAXIMUM MARKS = 20
MAXIMUM MARKS = 80

- NOTE: (i)** Part-II is to be attempted on the separate **Answer Book**.
(ii) Attempt **ONLY FOUR** questions from **PART-II**. **ALL** questions carry **EQUAL** marks.
(iii) All the parts (if any) of each Question must be attempted at one place instead of at different places.
(iv) Write Q. No. in the Answer Book in accordance with Q. No. in the Q. Paper.
(v) No Page/Space be left blank between the answers. All the blank pages of Answer Book must be crossed.
(vi) Extra attempt of any question or any part of the question will not be considered.

PART-II

- Q. No. 2.** What is belief in the Day of Judgment? Explore its effects on individual and collective lives of human beings. (20)
- Q. No. 3.** Islam provides better rights to men and women than all other religions. Explore with arguments. (20)
- Q. No. 4.** Comment on the teachings of Islam regarding co-existence in a multi-faith society. (20)
- Q. No. 5.** Islamophobia is a sign of extremism. Give suggestions for its remedy. (20)
- Q. No. 6.** Express the principles of accountability of rulers according to the Holy Quarn and Sunnah. (20)
- Q. No. 7.** Explore the importance of Sufism to spread out Islam. Is the amelioration of current deviation possible through Sufism? (20)
- Q. No. 8.** Write notes on the following: (10 marks each) (20)
(a) Treaty of Hudaibiyya as a pact of peace.
(b) Benefits acquired from Battle of Khayber.

URDU VERSION

- سوال نمبر 2: عقیدہ آخرت کی وضاحت کریں۔ اس کے انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر اثرات کا جائزہ لیں۔ (20)
- سوال نمبر 3: اسلام مرد و خواتین کو تمام مذاہب سے بہتر حقوق مہیا کرتا ہے۔ دلائل سے ثابت کریں۔ (20)
- سوال نمبر 4: کثیر المذہبی معاشرے میں بقائے باہمی کی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں۔ (20)
- سوال نمبر 5: اسلاموفوبیا انتہا پسندی کی علامت ہے اس کے تدارک کے لیے تجاویز پیش کریں۔ (20)
- سوال نمبر 6: اسلام نے حکمرانوں کے احتساب کے جو اصول وضع کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں (20)
- سوال نمبر 7: فروغ اسلام میں تصوف کی اہمیت بیان کریں، کیا موجودہ بے راہ روی کا علاج تصوف میں ممکن ہے؟ (20)
- سوال نمبر 8: درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔ (10 marks each) (20)

- (a) صلح حدیبیہ بحثیت معاہدہ امن۔
- (b) غزوہ خیبر سے حاصل ہونے والے فوائد۔
- *****